

Marshall



English Translation Test-1
Time Allowed: 40Minutes

- Note:
1. Assignment must be handwritten.
2. Upload it in "Quiz/Assignment" section, otherwise it will not be checked.

Name: M. Talha Latif Batch: OB-039
Campus: Rawalpindi

Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.
(10)

اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپکی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور آپ کے پاؤں برائی کے راستے پر جانے سے رک جاتے ہیں تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے۔ صالح بننا مسلسل تذکیہ اور مجاہدے کا عمل ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے اور تکلیفیں بھی سہنا پڑتی ہیں۔

does lure *****

If the world do not attract you towards itself, if your eyes are filled with tears due to the fear of Allah, if the idea of hell instills in you the fear of God, if you worship Allah in the way in which it should be done, if good deed attracts you toward itself and you abstain from going on the way of evil, then you are pious. Some are pious and some try to become pious. It is fortunate to be pious. ~~It~~ Becoming pious is a continuous process of spirituality. It consumes time and pass through to the problems.

↓
also requires bearing difficulties